



ناردرن نے بلوچستان کوشکست دے کر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ جیت لیا

- تجربہ کار اوپنر عمر امین کی جارحانہ نصف سنچری نے فتح میں کلیدی کردار ادا کیا
- سپہیل تنویر کے 3 شکار، محمد نواز اور شاداب خان نے بھی 2،2 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی
- 215 رنز اور وکٹوں کے پیچھے 6 شکار کرنے والے خیبرپختونخوا کے محمد رضوان پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار

لاہور، 24 اکتوبر 2019ء:

ناردرن نے بلوچستان کو 52 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ جیت لیا۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ناردرن نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے۔ جواب میں بلوچستان کی پوری ٹیم 115 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔

اس سے قبل بلوچستان کے کپتان حارث سپہیل نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو تجربہ کار اوپنر عمر امین نے اننگز کے آغاز میں ہی جارحانہ انداز اپنا لیا۔ عمر امین نے 38 گیندوں پر 6 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 60 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ انہوں نے سپہیل اختر اور علی عمران کے ساتھ بالترتیب 49 اور 46 رنز کی شراکت قائم کی۔ اختتامی اوورز میں محمد نواز اور شاداب خان نے چھٹی وکٹ کے لیے 58 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کی۔ محمد نواز 31 اور شاداب خان 25 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ناردرن نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے۔ بلوچستان کی جانب سے عماد بٹ اور حسین طلعت نے 2،2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

168 رنز کے تعاقب میں بلوچستان کے بلے باز ناردرن کی مضبوط باؤلنگ لائن اپ کے سامنے زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور پوری ٹیم 18.2 اوورز میں 115 رنز پر آؤٹ ہو کر پولین واپس لوٹ گئی۔ بلوچستان کی جانب سے عمران فرحت 32 اور اویس ضیاء 28

رنز بنا کر ٹاپ اسکور رہے۔ ناردرن کے تجربہ کار میڈیم پیسر سہیل تنویر نے 27 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ اسپنر محمد نواز اور شاداب خان نے بھی 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

جارحانہ اننگز کھیلنے پر فاتح ٹیم کے اوپنر عمر امین کو مین آف دی فائنل میچ کا انعام دیا گیا۔

6 میچوں میں 215 رنز اور وکٹوں کے پیچھے 6 شکار کرنے والے خیبر پختونخوا کے کپتان محمد رضوان کو ایونٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ایونٹ میں 14 وکٹیں حاصل کرنے والے ناردرن کے تجربہ کار میڈیم پیسر سہیل تنویر کو بہترین باؤلر جبکہ 276 رنز بنانے والے بلوچستان کے اوپنر اویس ضیا نے ٹورنامنٹ کے بہترین بیٹسمین کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ناردرن کے روحیل نذیر کو ٹورنامنٹ کے بہترین وکٹ کیپر کا ایوارڈ دیا گیا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk